

سندھ ایکٹ نمبر XII مجریہ ۲۰۰۴

SINDH ACT NO.XII OF 2004

سندھ انفارمیشن ٹیکنالاجی بورڈ (ترمیم) ایکٹ، ۲۰۰۴

THE SINDH INFORMATION TECHNOLOGY

BOARD (AMENDMENT) ACT, 2004

فہرست (CONTENTS)

تمہید (Preamble)

دفعات (Sections)

۱۔ مختصر عنوان اور شروعات

Short title and commencement

۲۔ ۲۰۰۲ کے سندھ آرڈیننس نمبر III کی دفعہ ۲ کی ترمیم

Amendment of Section 2 of Sindh Ordinance No.III of
2002

۳۔ ۲۰۰۲ کے سندھ آرڈیننس نمبر III کی دفعہ ۳ کی ترمیم

Amendment of Section 4 of Sindh Ordinance No.III of
2002

۴۔ ۲۰۰۲ کے سندھ آرڈیننس نمبر III کی دفعہ ۵ کی ترمیم

Amendment of Section 5 of Sindh Ordinance No.III of
2002

۵۔ ۲۰۰۲ کے سندھ آرڈیننس نمبر III کی دفعہ ۷ کی ترمیم

Amendment of Section 7 of Sindh Ordinance No.III of
2002

سندھ ایکٹ نمبر XII مجریہ ۲۰۰۴

SINDH ACT NO.XII OF 2004

سندھ انفارمیشن ٹیکنالاجی بورڈ (ترمیم)
ایکٹ، ۲۰۰۴

**THE SINDH INFORMATION
TECHNOLOGY BOARD
(AMENDMENT) ACT, 2004**

[۱۱ اکتوبر ۲۰۰۴]

ایکٹ جس کی توسط سے سندھ انفارمیشن ٹیکنالاجی بورڈ آرڈیننس، ۲۰۰۲ میں ترمیم کی جائے گی۔ جیسا کہ سندھ انفارمیشن ٹیکنالاجی بورڈ آرڈیننس، ۲۰۰۲ میں ترمیم کرنا مقصود ہے، جو اس طرح ہوگی؛

تمہید (Preamble)

مختصر عنوان اور
شروعات

Short title and
commencement

۲۰۰۲ کے سندھ
آرڈیننس نمبر III کی
دفعہ ۲ کی ترمیم

Amendment of
Section 2 of
Sindh
Ordinance
No.III of 2002

۲۰۰۲ کے سندھ
آرڈیننس نمبر III کی
دفعہ ۳ کی ترمیم

Amendment of
Section 4 of

اس کو اس طرح عمل میں لایا جائے گا:
۱۔ (۱) اس ایکٹ کو سندھ انفارمیشن ٹیکنالاجی بورڈ (ترمیم) ایکٹ، ۲۰۰۴ کہا جائے گا۔

(۲) یہ فی الفور نافذ ہوگا۔
۲۔ سندھ انفارمیشن ٹیکنالاجی بورڈ آرڈیننس، ۲۰۰۲ میں، جس کو اس کے بعد بھی مذکورہ آرڈیننس کہا جائے گا، اس کی دفعہ ۲ میں:

(i) شق (c) کے بعد، مندرجہ ذیل نئی شق شامل کی جائے گی:

"(cc) "میمبر" مطلب بورڈ کا میمبر:
(ii) شق (f) میں، آخر میں آنے والے فل اسٹاپ کو سیمی کولن سے تبدیل کیا جائے گا اور اس کے بعد مندرجہ ذیل نئی شق شامل کی جائے گی:
(g) "وائس چیئرپرسن" مطلب بورڈ کا وائس چیئرپرسن۔"

۳۔ مذکورہ آرڈیننس کی دفعہ ۳ میں، ذیلی دفعہ (۱) کے ایسے مندرجہ ذیل متبادل ہوگا:

	"(۱) بورڈ مندرجہ ذیل پر مشتمل ہوگا:
چیئرپرسن	(i) سندھ کا گورنر

Sindh
Ordinance
No.III of 2002

۲۰۰۲ کے سندھ
آرڈیننس نمبر III کی
دفعہ ۵ کی ترمیم

Amendment of
Section 5 of
Sindh
Ordinance
No.III of 2002

۲۰۰۲ کے سندھ
آرڈیننس نمبر III کی
دفعہ ۷ کی ترمیم

Amendment of
Section 7 of
Sindh
Ordinance
No.III of 2002

وائیس چیئرپرسن	(ii) انفارمیشن اور ٹیکنالاجی والا وزیر یا اس کی غیر موجودگی میں وزیر اعلیٰ کی طرف سے نامزد کردہ کوئی شخص
	(iii) گیارہ میمبر جن میں سے کم از کم پانچ نجی سیکٹر میں سے حکومت کی طرف سے مقرر کیئے جائیں گے۔"

۴۔ مذکورہ آرڈیننس کی دفعہ ۵ کی ذیلی دفعہ (۲) میں، شق (a) کے لیئے مندرجہ ذیل متبادل ہوگا:
" (a) انفارمیشن اور ٹیکنالاجی کے استعمال کو فروغ اور ترقی دلانے اور اس کی حکمت عملی قومی انفارمیشن ٹیکنالاجی پالیسی کا طریقہ اختیار کرنا، اگر کوئی ہو۔"

۵۔ مذکورہ آرڈیننس کی دفعہ ۷ کی ذیلی دفعہ (۲) کے لیئے مندرجہ ذیل متبادل ہوگا:
" (۲) چیئرپرسن اپنے کوئی بھی اختیار ماسوائے بورڈ کے اختیارات کے کسی بھی بورڈ کے عملدار کے حوالے کر سکتا ہے۔"

۶۔ سندھ انفارمیشن ٹیکنالاجی بورڈ (ترمیم) آرڈیننس، ۲۰۰۳ کو منسوخ کیا جاتا ہے۔

نوٹ: ایکٹ کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا